



# پیدا یش


## رنگین بائبل

### باب نمبر 12 سے 17 تک کی آیات

**SD - URDU**

## کے استعمال کا طریقہ:

اگر آپ نے پہلے کبھی استعمال ڈاؤن لوڈ نہیں کیا تو کیا ہم یہ تجویز کرتے ہیں کہ آپ اس پروگرام کو ڈاؤن لوڈ کریں۔ ڈاؤن لوڈ کرنے کے بعد Mr. Mac Bible فائل پر کلک کریں اور Adobe Acrobat PDF Reader کا استعمال کریں۔ اس کے بعد آپ PDF کو نارمل مطالعہ میں تبدیل کر کے باسانی مطالعہ کرسکتے ہیں۔



# اپنا ملک چھوڑ

## پیدائش ۱۲:۱

پیدائش ۱۲:۱

اور خداوند نے کہا کہ، ”ٹو اپنے وطن اور اپنے ناتے داروں کے بیچ سے اور اپنے باپ کے گھر سے نکل کر اُس ملک میں جا جو میں تجھے دکھاونگا۔“

” اور میں تجھے ایک بڑی قوم بناؤں گا اور برکت ڈونگا اور تیرا نام سرفراز کروں گا سو ٹو باعت برکت ہو!۔“

پیدائش ۱۲ :



”جو تجھے مبارک کہیں اُنکو میں برکت دُونگا اور جو تجھ پر لعنت کرے اُس پر میں لعنت کروں گا اور زمین کے سب قبیلے تیرے وسیلہ سے برکت پائیں گے۔“

پیدائش : ۱۲ : ۳۰۲



سو ابراہم خداوند کے کہنے کے مطابق چل پڑا  
اور لوٹ اسکے ساتھ گیا اور ابراہم پچھتبرس  
کاتھا جب وہ حاران سے روانہ ہوا۔

پیدائش ۱۲:۴

اور ابراہم نے اپنی بیوی ساریٰ اور اپنے بھتیجے لوط  
کو اور سب مال کو جو انہوں نے جمع کیا تھا اور ان آدمیوں  
کو جو انکو حاران میں مل گئے تھے ساتھ لیا اور وہ  
ملکِ کنعان کو روانہ ہوئے اور ملکِ کنعان میں آئے۔

پیدائش ۱۲: ۵

اور ابراہم اُس ملک میں سے گزرتا ہو ا مقامِ سِکم میں مورہ کے بلوط تک پہنچا۔ اُس وقت ملک میں کنعانی رہتے تھے۔


پیدائش ۱۲:۶





پیدائش ۱۲ : ۷

تب خُداوند نے ابراَم کو دکھائی دیکر کہا  
کہ، ”یہی مُلک میں تیری نسل کو دُونگا۔“



پیدائش ۱۲ : ۸.۷

اور اس نے وہاں خُداوند کے لئے جو اُسے دکھائی دیا تھا ایک ُقربانگاہ بنائی۔ اور وہاں سے گُوج کر کے اُس پہاڑ کی طرف گیا جو بیت ایل کے مشرق میں ہے اور اپنا ڈیرا ایسے لگایا کہ بیت ایل مغرب میں اور عیّ مشرق میں پڑا۔

پیدائش ۱۲: ۸

اور وہاں اُس نے خداوند کے ایک قربان  
گاہ بنائی اور خداوند سے دعا کی۔

اور ابراہم سفر کرتا کر تا جنوب کی طرف  
بڑھ گبا۔ اور اُس ملک میں کال پڑا۔

پیدائش ۱۲: ۱۰۹



اور ابراہم مصر کو گیا کہ وہاں ٹکا  
رہے کیونکہ ملک میں سخت کال تھا۔

پیدائش ۱۲: ۱۰





پیدائش ۱۲: ۱۱

اور ایسا ہوا کہ جب وہ مصر میں داخل ہونے کو تھا تو اُس نے اپنی بیوی ساری سے کہا کہ، ”دیکھ میں جانتا ہوں کہ ٹو دیکھنے میں خوبصورت عورت ہے۔“

”اور یوں ہو گا کہ مصری تجھے دیکھ  
کر کہینے کے یہ اُسکی بیوی ہے۔ سو وہ  
مجھے تو مار ڈالیں گے مگر تجھے زندہ رکھ لیں گے۔“

پیدائش ۱۲:۱۲





پیدائش ۱۲:۱۳

”سو تو یہ کہہ دینا کہ میں اسکی بہن ہوں تاکہ تیرے سبب  
سے میری خیر ہو اور میری جان تیری بدولت بچی رہے۔“

پیدایش ۱۲: ۱۴

اور یوں ہوا کہ جب ابرام مصر میں آیا تو مصریوں  
نے اس عورت کو دیکھا کہ وہ نہایت خوبصورت ہے۔

اور فرعون کے امرانے اُسے دیکھ کر  
فرعون کے حضور میں اُسکی تعریف کی،



پیدائش ۱۲: ۱۵

--- اور وہ عورت فرعون کے گھر پہنچائی گئی۔

اور اُس نے اُسکی خاطر ابراہم پر احسان کیا اور بھیڑ  
بکریاں اور گائے بیل اور گدھے اور غلام اور  
لوئندیاں اور گدھیاں اور اونٹ اُسکے پاس ہو گئے۔

پیدائش ۱۶ :



پر خداوند نے فرعون اور اُسکے خاندان پر ابراہم کی  
بیوی ساری کے سبب سے بڑی بڑی بلائیں نازل کیں۔

پیدایش ۱۲:۱۷



پیدائیش ۱۲: ۱۸

تب فرعون نے ابرام کو بلا کر اُس سے کہا  
کہ، ”تُونے مجھ سے کیا کیا؟ تُونے مجھے  
کیوں نہ بتایا کہ یہ تیری بیوی ہے؟“




”ٹونے پہ کیوں کہا کہ وہ میری بہن ہے؟ اسی لئے  
میں نے اُسے لیا کہ وہ میری بیوی بنے۔ سو دیکھ  
تیری بیوی حاضر ہے۔ اُسکو لے اور چلا جا۔“

پیدائش ۱۲:۱۹

اور فرعون نے اُسکے حق میں اپنے آدمیوں کو ہدایت کی اور انہوں نے اُسے اور اُسکی بیوی کو اُسکے سب مال کے ساتھ روانہ کیا۔

پیدائش ۱۲: ۲۰



## BIBLE: Genesis 12:1-6

**12:1** Now the LORD said to Abram, "Leave your country, and your relatives, and your father's house, and go to the land that I will show you. **2** I will make of you a great nation. I will bless you and make your name great. You will be a blessing. **3** I will bless those who bless you, and I will curse him who treats you with contempt. All the families of the earth will be blessed through you."

**4** So Abram went, as the LORD had told him. Lot went with him. Abram was seventy-five years old when he departed from Haran. **5** Abram took Sarai his wife, Lot his brother's son, all their possessions that they had gathered, and the people whom they had acquired in Haran, and they went to go into the land of Canaan. They entered into the land of Canaan.

**6** Abram passed through the land to the place of Shechem, to the oak of Moreh. At that time, Canaanites were in the land.

۱۲۔ اور خداوند نے کہا کہ، ”ٹوپنے وطن اور اپنے ناتے داروں کے بیچ سے اور اپنے باپ کے گھر سے نکل کر اُس ملک میں جا جو میں تجھے دکھاونگا۔“

۲۔ اور میں تجھے ایک بڑی قوم بناؤں گا اور برکت دُونگا اور تیرا نام سرفراز کروں گا سو تو باعث برکت ہو!۔ **۳۔** ”جو تجھے مبارک کہیں انکو میں برکت دُونگا اور جو تجھے پر لعنت کرے اُس پر میں لعنت کروں گا اور زمین کے سب قبیلے تیرے و سیلہ سے برکت پائیں گے۔“

۴۔ سو ابرام خداوند کے کہنے کے مطابق چل پڑا اور لوٹ اسکے ساتھ کیا اور ابرام پچھڑبرس کاتھا جب وہ حaran سے روانہ ہوا۔ **۵۔** اور ابرام نے اپنی بیوی ساری اور اپنے بھتیجے لوٹ کواور سب مال کو جو انہوں نے جمع کیا تھا اور ان آدمیوں کو جو انکو حaran میں مل گئے تھے ساتھ لیا اور وہ ملکی کنعان کو روانہ ہوئے اور ملک کنعان میں آئے۔

**۶۔** اور ابرام اُس ملک میں سے گزرتا ہو ا مقام سکم میں مورہ کے بلوط تک پہنچا۔ اُس وقت ملک میں کنعانی رہتے تھے۔

## بائبل: پیدائش ۱۲: ۷ سے ۱۲: ۷

### BIBLE: Genesis 12:7-12

7 The LORD appeared to Abram and said, "I will give this land to your offspring." He built an altar there to the LORD, who had appeared to him.

8 He left from there to go to the mountain on the east of Bethel and pitched his tent, having Bethel on the west, and Ai on the east. There he built an altar to the LORD and called on the LORD's name. 9 Abram travelled, still going on towards the South.

10 There was a famine in the land. Abram went down into Egypt to live as a foreigner there, for the famine was severe in the land.

11 When he had come near to enter Egypt, he said to Sarai his wife, "See now, I know that you are a beautiful woman to look at.

12 It will happen, when the Egyptians see you, that they will say, 'This is his wife.' They will kill me, but they will save you alive.

۷۔ تب ہداوند نے ابراہیم کو دکھائی دیکر کہا کہ، "یہی ملک میں تیری نسل کو دُونگا!" اور اس نے وہاں ہداوند کے لئے جو اُسے دکھائی دیا تھا ایک قربانگاہ بنائی۔

۸۔ اور وہاں سے گوچ کر کے اُس پہاڑ کی طرف گیا جو بیت ایل کے مشرق میں ہے اور اپنا ڈیرا ایسے لگایا کہ بیت ایل مغرب میں اور عیّ مشرق میں پڑا۔ اور وہاں اُس نے ہداوند کے ایک قربان گاہ بنائی اور ہداوند نے ہداوند کے ایک قربان گاہ بنائی اور ہداوند سے دُعا کی۔ اور وہاں اُس طرف بڑھ گیا۔

۹۔ اور اُس ملک میں کال پڑا۔ اور ابراہیم مصر کو گیا کہ وہاں ٹکر رہے کیونکہ ملک میں سخت کال تھا۔

۱۰۔ اور ایسا بُؤا کہ جب وہ مصر میں داخل ہوئے کوئی تو اس نے اپنی بیوی ساری سے کہا کہ، "دیکھ میں جانتا ہوں کہ تو دیکھنے میں خوبصورت عورت ہے۔"

۱۱۔ "اور یوں ہوگا کہ مصری تجھے دیکھ کر کہنے کے یہ اُسکی بیوی بے۔ سو وہ مجھے تو مار ڈالینگے مگر تجھے زندہ رکھ لینگے۔"

بائبل: پیدائش ۱۲: ۱۳ سے ۱۴: ۱۹

## BIBLE: Genesis 12:13-19

13 Please say that you are my sister, that it may be well with me for your sake, and that my soul may live because of you."

14 When Abram had come into Egypt, Egyptians saw that the woman was very beautiful.

15 The princes of Pharaoh saw her, and praised her to Pharaoh; and the woman was taken into Pharaoh's house. 16 He dealt well with Abram for her sake. He had sheep, cattle, male donkeys, male servants, female servants, female donkeys, and camels.

17 The LORD afflicted Pharaoh and his house with great plagues because of Sarai, Abram's wife. 18 Pharaoh called Abram and said, "What is this that you have done to me? Why didn't you tell me that she was your wife?"

19 Why did you say, 'She is my sister,' so that I took her to be my wife? Now therefore, see your wife, take her, and go your way."

۱۳۔ ”سوٹویہ کہہ دینا کہ میں اسکی بہن ہوں تاکہ تیرے سبب سے میری خیر ہو اور میری جان تبری بدولت بچی رہے۔“

۱۴۔ اور یوں بُؤا کہ جب ابراہم مصر میں آیا تو مصریوں نے اُس عورت کو دیکھا کہ وہ نہایت خوبصورت ہے۔

۱۵۔ اور فرعون کے اُمرا نے اُسے دیکھ کر فرعون کے حضور میں اُسکی تعریف کی اور وہ عورت فرعون کے گھر پہنچائی گئی۔ ۱۶۔ اور اُس نے اُسکی خاطر ابراہم پر احسان کیا اور بھیڑ بکریاں اور گائے بیل اور گدھے اور غلام اور لوٹیاں اور گدھیاں اور اونٹ اُسکے پاس پوگئے۔

۱۷۔ پر خداوند نے فرعون اور اُسکے خاندان پر ابراہم کی بیوی ساری کے سبب سے بڑی بڑی بلاں نازل کیں۔ ۱۸۔ تب فرعون نے ابراہم کو بُلا کر اُس سے کہا کہ، ”ٹونے مجھے سے کیا کیا؟“ ٹونے مجھے کیوں نہ بتایا کہ یہ تیری بیوی ہے؟“

۱۹۔ ”ٹونے یہ کیوں کہا کہ وہ میری بہن ہے؟“ اسی لئے میں نے اُسے لیا کہ وہ میری بیوی بنے۔ سو دیکھ تیری بیوی حاضر ہے۔ اُسکو لے اور چلا جا۔“

پیدائش ۱۲: ۲۰

۲۰۔ اور فرعون نے اُسکے حق میں اپنے آدمیوں کو بُدایت کی اور انہوں نے اُسے اور اُسکی بیوی کو اُسکے سب مال کے ساتھ روانہ کیا۔

## Genesis 12:20

20 Pharaoh commanded men concerning him, and they escorted him away with his wife and all that he had.




ابرائیم کے نئے خاندان کا آغاز بہت جلد ہو رہا ہے!



خدا ابرام سے ہمکلام ہوتا ہے۔

ابرائیم اور ساری



ابرائیم خُدا کے لئے قربان گاہ بناتا ہے۔



ابرَام، سارَى اور لُوط  
مِصْر میں داخل ہوتے ہیں۔



مصّر پر فرعون حاکم تھا۔



ساریٰ فرعون کے گھر پہنچائی جاتی ہے!



فرعونَ ابراَمَ كوسارِي لوطا ديتا هے۔





”ٹونے مجھے کیوں کہا کہ یہ تیری بہن تھی؟“

پیدائش ۱۳:۱۸۔۱

پیدائش ۱۳:۱

اور ابراہم مصر سے اپنی بیوی اور اپنے سب مال اور لوط کو ساتھ لیکر کنعان کے جنوب کی طرف چلا۔

اور ابراہم کے پاس چوپائے  
اور سونا چاندی بکڑت تھا۔

پیدائش ۱۳ : ۲

۲۲



اور کنعان کے جنوب سے سفر کرتا ہوا بیت ایل میں اُس جگہ پہنچا جہاں پہلے بیت ایل اور عی کے درمیان اُسکا ڈیرا تھا۔ یعنی وہ مقام جہاں اُس نے شروع میں قربان گاہ بنائی تھی۔

پیدائش : ۱۳ : ۴۰۳



اور وہاں ابراہم نے خداوند سے دُعا کی۔  
اور لوط کے پاس بھی جو ابراہم کا ہم سفر تھا  
بھیڑ بکریاں گائے بیل اور ڈیرے تھے۔

پیدائش ۱۳: ۵۔۶





پیدائش ۱۳:۶

اور اُس ملک میں اتنی گنجائش نہ تھی کہ وہ اکھٹے رہیں  
کیونکہ اُنکے پاس اتنا مال تھا کہ اکھٹے نہیں رہ سکتے تھے۔



پیدائش ۱۳ : ۷

اور ابراہم کے چروابوں اور لوط  
کے چروابوں میں جھگڑا ہوا۔



اور کنعانی اور فرزی اُس  
وقت ملک میں رہتے تھے۔

پیدائش ۱۳ : ۷



پیدائش ۱۳ :

تب ابراہم نے لوط سے کہا کہ، ”میرے اور تیرے درمیان اور میرے چروابوں اور تیرے چروابوں کے درمیان جھگڑا نہ ہوا کرے کیونکہ بھائی ہیں۔“



”کیا یہ سارا ملک تیرے سامنے  
نہیں؟ سوٹو مجھ سے الگ ہو جا۔“

پیدائش ۱۳:۹




”اگر ٹو بائیں جائے تو میں دہنے جاؤں گا اور  
اگر ٹو دہنے جائے تو میں بائیں جاؤں گا۔“

پیدائش ۱۳:۹



پیدایش ۱۳ : ۱۰

تب لوط نے آنکھ اُٹھا یردن کی ساری ترائی پر ضُغر کی طرف ہے نظر دوڑائی کیونکہ وہ اس سے پیشتر کہ خداوند نے سدوم اور عمورہ کو تباہ کیا خداوند کے باغ اور مصر کے ملک کی مانند خوب سیراب تھی۔



پیدائش ۱۳:۱۱

سو لوٹ نے یردن کی ساری ترائی کو اپنے  
لئے چُن لیا اور مشرق کی طرف چلا اور وہ  
ایک دوسرے سے جُدا ہو گئے۔

ابرامٰ تو ملکِ کنعانَ میں رہا اور لوٹ نے  
ترائی کے شہروں میں شکونت اختیار  
کی اور سدومَ کی طرف اپنا ڈیرا لگایا۔

پیدائش ۱۳:۱۲





لُوطَ سَدْوَمَ مِنْ جَاتَا هَـ!  
پَيَادِيشَ ۱۳:۱۸۔

پَيَادِيشَ ۱۳:۱۳

اوْرَسَدْوَمَ كَـ لَوْگَ خُداونَدَ كَـ نَظَرَ  
مِنْ نَهَايَتَ بَدْكَارَ اوْرَ گَنْهَـگَارَ تَـهَـ.

اور لُوط کے جُدا ہو جانے کے بعد  
خداوند نے ابراہم سے کہا کہ، ”اپی آنکھ  
اٹھا اور جس جگہ تُو ہے وہاں سے شمال  
اور جنوب اور مشرق اور مغرب کی  
طرف نظر دوڑا۔ کیونکہ یہ تمام ملک جو  
تُو دیکھ رہا ہے میں تجھ کو اور تیری  
نسل کو ہمیشہ کے لئے دُونگا۔“

پیدائش ۱۳: ۱۴-۱۵





پیدائش : ۱۳ : ۱۶

” اور میں تیری نسل کو خاک کے ذرّوں کی مانند  
بناؤ نگا ایسا کہ اگر کوئی شخص خاک کے ذرّوں  
کو گن سکے تو تیری نسل بھی گن لی جائیگی۔“

”اُٹھ اور اس ملک کے طول و عرض میں سیر  
کر کیونکہ کیونکہ میں اسے تجھ کو دُونگا۔“

پیدائش ۱۳: ۱۷

اور ابراہم نے اپنا ڈیرا اٹھایا اور ممرے کے  
بُلوطوں میں جو حبرون ہیں جاکر رہنے لگا اور  
وہاں خداوند کے لئے ایک قربان گاہ بنائی۔

پیدائش ۱۳:۱۸



## BIBLE: Genesis 13:1-7

**13:1** Abram went up out of Egypt—he, his wife, all that he had, and Lot with him—into the South.

2 Abram was very rich in livestock, in silver, and in gold. 3 He went on his journeys from the South as far as Bethel, ...to the place where his tent had been at the beginning, between Bethel and Ai,

4 to the place of the altar, which he had made there at the first. There Abram called on the LORD's name. 5 Lot also, who went with Abram, had flocks, herds, and tents.

6 The land was not able to bear them, that they might live together; for their possessions were so great that they couldn't live together.

7 There was strife between the herdsmen of Abram's livestock and the herdsmen of Lot's livestock. The Canaanites and the Perizzites lived in the land at that time.

بائبل: پیدایش ۱۳:۱ سے ۷:۱۳

۱۳:۱ اور ابرام مصر سے اپنی بیوی اور اپنے سب مال اور لوٹ کو ساتھ لیکر کنعان کے جنوب کی طرف چلا۔

۲۔ اور ابرام کے پاس چوپائے اور سونا چاندی بکثرت تھا۔ ۳۔ اور کنعان کے جنوب سے سفر کرتا ہوا بیٹ ایل میں اُس جگہ پہنچا جہاں پہلے بیٹ ایل اور عی کے درمیان اُسکا ڈیرا تھا۔ ۴۔ یعنی وہ مقام جہاں اُس نے شروع میں قربان گاہ بنائی تھی۔ اور وہاں ابرام نے خداوند سے دعا کی۔ ۵۔ اور لوٹ کے پاس بھی جواہر اُم کا ہم سفر تھا بھیڑ بکریاں گائے بیل اور ڈیرے تھے۔

۶۔ اور اُس ملک میں اتنی گنجائش نہ تھی کہ وہ اکھٹے رہیں کیونکہ انکے پاس اتنا مال تھا کہ اکھٹے نہیں رہ سکتے تھے۔

۷۔ اور ابرام کے چروابوں اور لوٹ کے چروابوں میں جھگڑا ہوا۔ اور کنعانی اور فرزی اُس وقت ملک میں رہتے تھے۔

## BIBLE: Genesis 13:8-12

8 Abram said to Lot, "Please, let there be no strife between you and me, and between your herdsmen and my herdsmen; for we are relatives.

9 Isn't the whole land before you? Please separate yourself from me. If you go to the left hand, then I will go to the right. Or if you go to the right hand, then I will go to the left."

10 Lot lifted up his eyes, and saw all the plain of the Jordan, that it was well-watered everywhere, before the LORD destroyed Sodom and Gomorrah, like the garden of the LORD, like the land of Egypt, as you go to Zoar.

11 So Lot chose the Plain of the Jordan for himself. Lot travelled east, and they separated themselves from one other.

12 Abram lived in the land of Canaan, and Lot lived in the cities of the plain, and moved his tent as far as Sodom.

بائبل: پیدائش ۱۳: ۸ سے ۱۲: ۱۳

۸۔ تب ابرام نے لوٹ سے کہا کہ، ”میرے اور تیرے درمیان اور میرے چروابوں اور تیرے چروابوں کے درمیان جھگڑا نہ ہوئا کرے کیونکہ بھائی ہیں۔“

۹۔ کیا یہ سارا ملک تیرے سامنے نہیں؟ سو تو مجھ سے الگ ہو جا۔ اگر تو بائیں جائے تو میں دینے جاؤں گا اور اگر تو دینے جائے تو میں بائیں جاؤں گا۔

۱۰۔ تب لوٹ نے انکھ اُٹھا یردن کی ساری ترائی پر ضُغَر کی طرف ہے نظر دوڑائی کیونکہ وہ اس سے پیشتر کہ خداوند نے سدوم اور عمورہ کو تباہ کیا خداوند کے باع اور مصر کے ملک کی مانند خوب سیراب تھی۔

۱۱۔ سو لوٹ نے یردن کی ساری ترائی کو اپنے لئے چن لیا اور مشرق کی طرف چلا اور وہ ایک دُسرے سے جُدا ہو گئے۔

۱۲۔ ابرام تو ملکِ کنعان میں رہا اور لوٹ نے ترائی کے شہروں میں شکونت اختیار کی اور سدوم کی طرف اپنا ڈیرا لگایا۔

## BIBLE: Genesis 13:13-18

13 Now the men of Sodom were exceedingly wicked and sinners against the LORD.

14 The LORD said to Abram, after Lot was separated from him, "Now, lift up your eyes, and look from the place where you are, northward and southward and eastward and westward, 15 for I will give all the land which you see to you and to your offspring forever.

16 I will make your offspring as the dust of the earth, so that if a man can count the dust of the earth, then your offspring may also be counted.

17 Arise, walk through the land in its length and in its width; for I will give it to you."

18 Abram moved his tent, and came and lived by the oaks of Mamre, which are in Hebron, and built an altar there to the LORD.

بانبل: پیدائش ۱۳: ۱۳ سے ۱۴: ۱۳

۱۳۔ اور سدوم کے لوگ خداوند کی نظر میں نہایت بدکار اور گنگاگار تھے۔

۱۴۔ اور لوٹ کے جُدا ہو جانے کے بعد خداوند نے ابرام سے کہا کہ، ”اپی انکھ اُلٹھا اور جس جگہ ٹو بے وہاں سے شمال اور جنوب اور مشرق اور مغرب کی طرف نظر دوڑ۔ ۱۵۔ کیونکہ یہ تمام ملک جو ٹو دیکھ رہا ہے میں تجھے کو اور تیری نسل کو ہمیشہ کے لئے دُونگا۔“

۱۶۔ اور میں تیری نسل کو خاک کے ذرروں کی مانند بناؤں گا ایسا کہ اگر کوئی شخص خاک کے ذرروں کو گن سکے تو تیری نسل بھی گن لی جائیگی۔

۱۷۔ ”اُلٹھ اور اس ملک کے طول و عرض میں سیر کر کیونکہ میں اسے تجھے کو دُونگا۔“

۱۸۔ اور ابرام نے اپنا ڈیرا اُلٹھایا اور مرے کے بلوطوں میں جو حبرون ہیں جاکر رہنے لگا اور وہاں خداوند کے لئے ایک قربان گاہ بنائی۔



مصر کو چھوڑنے کا وقت!

ابرام، سارى، اور لوط کا کنعان کو لوٹتے ہیں۔





هم بہت زیاده ہیں!

لُوطٌ اور ابراہِم کے لوگوں میں جھگڑا ہوتا ہے۔



اگر تم ادھر جاؤ گے تو میں ادھر جاؤں گا !



ابرâم اور ساری سفر کرتے ہیں۔

پیدائیش ۱۴: ۱ - ۲۴

پیدائیش ۱۴: ۱

اور سنعَارَ کے بادشاہ امرافَلَ اور لاسرَ کے  
بادشاہ اریوکَ اور عیلامَ کے بادشاہ کدرَ لا عمر  
اور جوئیمَ کے بادشاہ تزعَالَ کے ایام میں۔



پیدائیش : ۱۴

یوں ہوا کہ انہوں نے سدوم کے بادشاہ برع اور عمورہ کے بادشاہ برشع اور ادمہ کے بادشاہ سنی اب اور ضبونیم کے بادشاہ شمیبر اور بالع (یعنی ضُفر) کے بادشاہ سے جنگ کی۔

یہ سب سندیم (یعنی دریای شور)  
کی وادی میں اکھٹے ہوئے۔

پیدایش ۱۴:۳





پیدایش ۱۴: ۴

بارہ برس تک وہ کدر لاعمر کے مطیع رہے  
پر تیر ہوئیں برس انہوں نے سرکشی کی۔

اور چودھویں برس کدر لاعمر اور اُس کے ساتھ کے بادشاہ آئے اور رفائیم کو عستاراٹ قرنیم میں اور زُوزیوں کو ہام میں اور ایمیم کو سوی قریتیم میں۔ اور حوریوں کو ان کے کوہ شعیر میں مارتے مارتے ایل فاران تک جو بیابان سے لگا ہوا ہے آئے۔

پیدائش ۱۴: ۶.۵

پھر وہ لوٹ کر عین مصافت (یعنی قادس) پہنچے  
اور عمالیقیوں کے تمام ملک کو اور اموریوں کو  
جو حصیصون تم رہتے تھے مارا۔

پیدائش ۱۴: ۷

تب سدوم کا بادشاہ اور عمورہ کا بادشاہ اور ادمہ کا بادشاہ اور ضبونیم کا بادشاہ اور بالع (یعنی ضُغر) کا بادشاہ نکلے اور انہوں نے سَدیم کی وادی میں معرکہ آرائی کی۔

پیدائش ۱۴:



تاکہ عیلام کے بادشاہ کدر لا عمر اور جونیم کے بادشاہ تد عال اور سنعار کے بادشاہ امرافل اور الاسر کے بادشاہ اریوک سے جنگ کریں۔ یہ چار بادشاہ ان پانچوں کے مقابلہ میں تھے۔

پیدائش ۹ : ۱۴



پیدائش ۱۴: ۱۰

اور سَدِیم کے وادی میں جابجا نفت کے گڑھے تھے اور  
سَدُوم اور عمورہ کے بادشاہ بھاگتے بھاگتے وہاں گرے۔



پیدیاش : ۱۰

اور جو بچے پہاڑ پر بھاگ گئے۔



تب وہ سدوم اور عمورہ کا سب مال  
اور وہاں کا سب اناج لیکر چلے گئے۔

پیدائش ۱۴:۱۱



پیدائش : ۱۴ : ۱۲

اور ابراہم کے بھتیجے لوٹ کو اور اُسکے مال  
کو بھی لیگئے کیونکہ وہ سدوم میں رہتا تھا۔



پیدائش ۱۴: ۱۳

تب ایک نے جو بچ گیا تھا جا  
کر ابرام عبرانی کو خبر دی۔

جو اسکال اور عانیر کے بھائی مرتے اموری کے  
بلوطوں میں رہتا تھا اور یہ ابراہم کے ہم عہد تھے۔

پیدائش ۱۴: ۱۳

ابراہم لوط کو بچاتا ہے!  
پیدائش ۱۴: ۱۳۔ ۱۶

جب ابراہم نے سُنا کہ اُسکا بھائی گرفتار ہوا تو اُس نے اپنے تین سو الٹھارہ مشتاق خانہ زادوں کو لیکر دان تک اُنکا تعاقب کیا۔

پیدائش ۱۴ : ۱۴



اور رات کو اُس نے اور اُسکے خادموں نے غول  
غول ہو کر ان پر دھاوا کیا اور انکو مارا اور خوبہ  
تک جو دمشق کے بائیں ہاتھ ہے انکا پیچھا کیا۔

پیدائش ۱۴ : ۱۵



اور وہ سارے مال کو اور اپنے بھائی لوط کو اور اُسکے مال اور عورتوں کو بھی اور لوگوں کو واپس پہیر لایا۔

پیدائش ۱۶:۱۶



## BIBLE: Genesis 14:1-7

**14:1** In the days of Amraphel, king of Shinar; Arioch, king of Ellasar; Chedorlaomer, king of Elam; and Tidal, king of Goiim,

2 they made war with Bera, king of Sodom; Birsha, king of Gomorrah; Shinab, king of Admah; Shemeber, king of Zeboiim; and the king of Bela (also called Zoar).

3 All these joined together in the valley of Siddim (also called the Salt Sea). 4 They served Chedorlaomer for twelve years, and in the thirteenth year they rebelled.

5 In the fourteenth year Chedorlaomer came, and the kings who were with him, and struck the Rephaim in Ashteroth Karnaim, the Zuzim in Ham, the Emim in Shaveh Kiriathaim, 6 and the Horites in their Mount Seir, to El Paran, which is by the wilderness.

7 They returned, and came to En Mishpat (also called Kadesh), and struck all the country of the Amalekites, and also the Amorites, that lived in Hazazon Tamar.

بائبل: پیدائش ۱۴: ۱ سے ۱۴: ۷

۱۴: ۱ اور سنعَار کے بادشاہ امرافل اور لاسر کے بادشاہ اریوک اور عیلام کے بادشاہ کدر لا عمر اور جوئیم کے بادشاہ تزال کے ایام میں۔

۲۔ یوں ہوا کہ انہوں نے سدوم کے بادشاہ برع اور عمورة کے بادشاہ برشع اور ادمہ کے بادشاہ سنی اب اور ضبونیم کے بادشاہ شمیبر اور بالع (یعنی ضُغر) کے بادشاہ سے جنگ کی۔

۳۔ یہ سب سنديم (یعنی دریاۓ سور) کی وادی میں اکھٹے ہوئے۔ ۴۔ بارہ برس تک وہ کدر لا عمر کے مطیع رہے پر تیر ہوئیں برس انہوں نے سرکشی کی۔

۴۔ اور چودھویں برس کدر لا عمر اور اسکے ساتھ کے بادشاہ آئے اور رفائم کو عستارات قرنیم میں اور زوزیوں کو بام میں اور ایمیم کو سوی قریتیم میں۔ ۶۔ اور حوریوں کو انکے کوه شعیر میں مارتے مارتے اپل فاران تک جو بیابان سے لگا ہوا ہے آئے۔

۷۔ پھر وہ لوٹ کر عین مصافت (یعنی قادس) پہنچے اور عمالیقیوں کے تمام ملک کو اور اموریوں کو جو حصیصون تم میں رہتے تھے مارا۔

## BIBLE: Genesis 14:8-13

8 The king of Sodom, and the king of Gomorrah, the king of Admah, the king of Zeboiim, and the king of Bela (also called Zoar) went out; and they set the battle in array against them in the valley of Siddim

9 against Chedorlaomer king of Elam, Tidal king of Goiim, Amraphel king of Shinar, and Arioch king of Ellasar; four kings against the five.

10 Now the valley of Siddim was full of tar pits; and the kings of Sodom and Gomorrah fled, and some fell there. Those who remained fled to the hills.

11 They took all the goods of Sodom and Gomorrah, and all their food, and went their way. 12 They took Lot, Abram's brother's son, who lived in Sodom, and his goods, and departed.

13 One who had escaped came and told Abram, the Hebrew. At that time, ...he lived by the oaks of Mamre, the Amorite, brother of Eshcol and brother of Aner. They were allies of Abram.

بائبل: پیدائش ۱۴:۸ سے ۱۴:۱۳

۸۔ تب سدوم کا بادشاہ اور عمورہ کا بادشاہ اور ادمہ کا بادشاہ اور ضیونیم کا بادشاہ اور بالع (یعنی ضُغَرْ) کا بادشاہ نکلے اور انہوں نے سَدِیْم کی وادی میں معرکہ آرائی کی۔

۹۔ تاکہ عیلام کے بادشاہ کدر لاعمر اور جونیم کے بادشاہ تدعال اور سنعاز کے بادشاہ امرافل اور الاسر کے بادشاہ اریوک سے جنگ کریں۔ یہ چار بادشاہ ان پانچوں کے مقابلہ میں تھے۔

۱۰۔ اور سَدِیْم کے وادی میں جا جا نفت کے گڑھے تھے اور سدوم اور عمورہ کے بادشاہ بھاگتے بھاگتے وباں گرے۔ اور جو بچے پھاڑ پر بھاگ گئے۔

۱۱۔ تب وہ سدوم اور عمورہ کا سب مال اور وہاں کا سب اناج لیکر چلے گئے۔ اور ابرام کے بھتیجے لوٹ کو اور اسکے مال کو بھی لیکر کیونکہ وہ سدوم میں رہتا تھا۔

۱۲۔ اور عرانی کو خبر دی۔ جو اسکال اور عانیر کے بھائی ممرے اموری کے بلوطوں میں رہتا تھا اور یہ ابرام کے بھی عہد تھے۔

## **Genesis 14:14-16**

14 When Abram heard that his relative was taken captive, he led out his three hundred and eighteen trained men, born in his house, and pursued as far as Dan.

15 He divided himself against them by night, he and his servants, and struck them, and pursued them to Hobah, which is on the left hand of Damascus.

16 He brought back all the goods, and also brought back his relative Lot and his goods, and the women also, and the other people.

**پیدائش ۱۴: ۱۴ سے ۱۶: ۱۶**

۱۴۔ جب ابراہیم نے سننا کہ اُسکا بھائی گرفتار ہوا تو اُس نے اپنے تین سو اٹھارہ مشتاق خانہ زادوں کو لیکر دان تک آنکا تعاقب کیا۔

۱۵۔ اور رات کو اُس نے اور اُسکے خادموں نے غول غول ہوکر ان پر دھاوا کیا اور انکو مارا اور خوبہ تک جو دمشق کے بائیں ہاتھ ہے انکا پیچھا کیا۔

۱۶۔ اور وہ سارے مال کو اور اپنے بھائی لوط کو اور اُسکے مال اور عورتوں کو بھی اور اور لوگوں کو واپس پھیر لایا۔



پانچ بادشاہ جنگ کے لئے اکھٹا ہوئے!



سادوم کا بادشاہ باغی ہو!



بم اپنی آزادی کے لئے جنگ لڑیں گے!



نفت کے گڑھوں پر نظر کرو!




نفت کے گڑھوں سے مجھ نفرت ہے!



لوٹا اور اُسکا خاندان جنگ کے  
دوران پکڑے گئے... افسوسناک خبرا!



ہمیں ابراہم کو خبر کرنے کی ضرورت ہے!



ابرائیم اپنی فوج کو تیار کرتا ہے!



ابرٰام چپکے سے حملہ کرتا ہے!



ابراہم کی فوج جنگ لڑتی ہے!

ابرٰام لُوط اور اُسکے خاندان کو بچاتا ہے!



# ملکِ صدقَ بادشاہ سے ملاقات! پیدائش ۱۴: ۱۷۔ ۲۴

پیدائش ۴: ۱۷

اور جب وہ کدر لاعمر اور اُسکے ساتھی کے بادشاہوں  
کو مار کر پھرا تو سدوم کا بادشاہ اُسکے استقبال کو  
سوئی کی وادی تک جو بادشاہی کی وادی ہے آیا۔

اور ملکِ صدق سالم کا بادشاہ روٹی اور  
مَسْ لایا اور وہ خُدا تعالیٰ کا کاہن تھا۔

پیدائش ۱۴: ۱۸ . ۱۹



اور اُس نے برکت دے کر کہا کہ، ”خُدا تعالیٰ کی طرف سے  
جو آسمان اور زمین کا مالک ہے ابراہیم مبارک ہو۔“ اور مبارک  
ہے خُدا تعالیٰ جس نے تیرے دشمنوں کو تیرے ہاتھ میں کر دیا۔

تب ابراہم نے سب کا دسوائی حصہ اُسکو دیا۔

پیدائش : ۱۴ : ۲۰





اور سدوم کے بادشاہ نے ابرام سے  
کہا کہ، ”آدمیوں کو مجھے دیدے  
اور مال اپنے لئے رکھ لئے۔“

پیدائش: ۱۴: ۲۱



پر ابراہم نے سدوم کے بادشاہ سے کہا کہ،  
”میں نے خُداوند خُدا تعالیٰ آسمان اور  
زمین کے مالک کی قسم کی کھائی ہے۔“

پیدائش ۱۴ : ۲۲-۲۳

... کہ میں نہ تو کوئی دھاگا نہ جوتی کا تسمہ  
نہ تیری اور کوئی چیز لੁں تاک ٹੂ نہ کہہ  
سکے کہ میں نے ابراہم کو دولتمند بنا دیا۔“

”سو اُسکے جو جوانوں نے کھالیا اور ان آدمیوں کے حصے کے جو میرے ساتھ گئے۔ سو عانیر اور اسکاں اور مرے اپنا اپنا حصہ لے لیں۔“

پیدائش ۱۴:۲۶



پیدائش ۱۴: ۷ سے ۱۴: ۲۲

## Genesis 14:17-22

17 The king of Sodom went out to meet him after his return from the slaughter of Chedorlaomer and the kings who were with him, at the valley of Shaveh (that is, the King's Valley).

18 Melchizedek king of Salem brought out bread and wine. He was priest of God Most High.

19 He blessed him, and said, "Blessed be Abram of God Most High, possessor of heaven and earth."

20 "Blessed be God Most High, who has delivered your enemies into your hand."

Abram gave him a tenth of all.

21 The king of Sodom said to Abram, "Give me the people, and take the goods for yourself."

22 Abram said to the king of Sodom, "I have lifted up my hand to the LORD, God Most High, possessor of heaven and earth,

۱۷۔ اور جب وہ کدر لاعمر اور اُسکے ساتھ کے بادشاہوں کو مار کر پھرا تو سدوم کا بادشاہ اُسکے استقبال کو سوئی کی وادی تک جو بادشاہی کی وادی ہے آیا۔

۱۸۔ اور ملک صدق سالم کا بادشاہ روٹی اور مے لایا اور وہ خدا تعالیٰ کا کاہن تھا۔

۱۹۔ اور اُس نے برکت دے کر کہا کہ، "خدا تعالیٰ کی طرف سے جو آسمان اور زمین کا مالک ہے ابرام مبارک ہو۔"

۲۰۔ اور مبارک ہے خدا تعالیٰ جس نے تیرے دشمنوں کو تیرے پاٹھے میں کر دیا۔ تب ابرام نے سب کا دسوائی حصہ اُسکو دیا۔

۲۱۔ اور سدوم کے بادشاہ نے ابرام سے کہا کہ، "آدمیوں کو مجھے دیدے اور مال اپنے لئے رکھ لے۔"

۲۲۔ پر ابرام نے سدوم کے بادشاہ سے کہا کہ، "میں نے خداوند خدا تعالیٰ آسمان اور زمین کے مالک کی قسم کی کھدائی ہے۔"

## Genesis 14:23-24

23 that I will not take a thread nor a sandal strap nor anything that is yours, lest you should say, 'I have made Abram rich.'

24 I will accept nothing from you except that which the young men have eaten, and the portion of the men who went with me: Aner, Eshcol, and Mamre. Let them take their portion."

پیدائش ۱۴: ۲۳ سے ۲۴: ۱۴

۲۳۔ کہ میں نہ تو کوئی دھاگا نہ جُوتی کا تسمہ نہ تیری اور کوئی چیز لوں تاک تُو نہ کہ سکے کہ میں نے ابرام کو دولتمند بنا دیا۔“

۲۴۔ ”سو اُسکے جو جوانوں نے کھالیا اور ان آدمیوں کے حصے کے جو میرے ساتھ گئے سو عانیَ اور اسکال اور مرے اپنا اپنا حصہ لے لین۔“




ابرَامَ كَيْ مَلَاقَتْ مَلِكَ صَدَقَ بَادْشَاهَ سَيْ هُوتَيْ هَيْ!



بادشاہ ابرام کو برکت دیتا ہے۔

”میں تم سے پیسہ نہیں لینا چاہتا ہوں۔“





ملکِ صدقَ بادشاہ پسُوْعَ بادشاہ کی یاد دلاتا ہے!

پیدائش ۱۵: ۲۱.۱




پیدائش ۱۵: ۱

إن باتوں کے بعد خداوند کا کلام رویا میں ابراہم پر  
نازل ہوا اور اُس نے فرمایا، ”آئے ابراہم تو مت ڈر  
- میں تیری سپر اور تیرا بہت بڑا اجر ہوں۔“


ابرَامَ نَرَ كَهَا، "آمَّهُ خُداوند خُدا ثُو مُجْهَّ كِيَا  
دِيگَّا؟ كِيونكَه مِين تو بَسَّهُ أَوْلَاد جَاتَاهُونَ اُور  
مِيرَهُ گَهَرَ كَأَمْخَتَار دَمْشَقِي الْيَعْزَرَ بَسَّهُ -"

پیدائش ۱۵:۲



پھر ابراہم نے کہا، ” دیکھو تو نے مجھے کوئی اولاد نہیں دی اور دیکھو میرا خانہ زاد میرا وارت ہوگا۔“

پیدائش : ۱۵ : ۳



پیدائیش : ۱۵

تب خداوند کا کلام اُس پر نازل ہوا اور اُس نے فرمایا، ” یہ تیرا وارث نہ ہوگا بلکہ وہ جو تیرے صلب سے پیدا ہوگا وہی تیرا وارث ہوگا۔“

اور وہ اُسکو باہر لے گیا اور کہا کہ، ”اب آسمان کی طرف نگاہ کر اور اگر ٹو سtarوں کو گن سکتا ہے تو گن اور اُس سے کہا کہ تیری اولاد ایسی ہی ہوگی۔“



پیدائش ۱۵:

اور وہ خداوند پر ایمان لایا اور اسے اُس نے اُسکے حق میں راستبازی شمار کیا۔



پیدائیش ۱۵: ۷

اور اُس نے اُس سے کہا کہ، ”میں خداوند  
بُوں جو تجھے کسدیوں کے اور نکال لایا  
کہ تجکھو یہ ملک میراث میں دُوں۔“



اور اُس نے کہا، ”آئے خداوند خدا! میں کیونکر جانوں کہ میں اُسکا وارث ہونگا۔“

پیدائش ۱۵: ۸

اُس نے اُس سے کہا کہ، ”میرے لئے تین برس کی ایک  
بھیجا اور تین برس کی ایک بکری اور تین برس کا ایک  
مینڑا اور ایک چمری اور ایک کبوتر کا بچہ لے۔“

پیدائش : ۱۵ : ۹





اُس نے ان سبھوں کو لیا اور  
انکو بیچ سے دو ٹکڑے کیا  
اور ہر ٹکڑے کو اُسکے  
ساتھ کے دوسرا ٹکڑے  
کے مقابل رکھا مگر پرندوں  
کے ٹکڑے نہ کئے۔

پیدائش: ۱۵:۱۰:۱۱

تب شکاری پرندے ان  
ٹکڑوں پر جھپٹنے لگے پر  
ابرام انکو ہنکاتا رہا۔

سُورج ڈوبتے وقت ابراہم پر گھری نیند غالب ہوئی۔

پیدائش ۱۵:۱۲

A colorful illustration of a man and a boy in a garden. The man, Abraham, has a white beard and is wearing a white robe over a yellow tunic. He is looking down at the boy, Isaac, who is also in a white robe and yellow tunic. They are surrounded by green plants and trees. The sky is blue with white clouds and stars, suggesting it is dawn or dusk.

اور دیکھو ایک بڑی ہولناک تاریکی اُس پر چھا گئی۔

اور اُس نے ابراہم سے کہا، ”یقین جان کہ تیری نسل  
کے لوگ ایسے ملک میں جو انکا نہیں پر دیسی  
ہونگے اور وہاں کے لوگوں کی غلامی کریں گے اور  
وہ چار سو برس تک انکو دُکھ دینگے۔“

پیدائش ۱۵: ۱۳





پیدائیش ۱۵: ۱۴

”لیکن میں اُس قوم کی عدالت کروں گا  
جسکی وہ غلامی کریں گے اور بعد میں وہ  
بڑی دولت لیکر وہاں سے نکل آئیں گے۔“



پیدائش ۱۵ :

” اور ٹو صحیح سلامت اپنے باپ دادا سے  
جا ملیگا اور نہایت پیری میں دفن ہوگا۔“



” اور وہ چوتھی پُشت میں یہاں لَوٹ آئینگے کیونکہ  
اموریوں کے گناہ اب تک پُورے نہیں ہوئے۔“

پیدائش ۱۵ : ۱۶



اور جب سُورج ڈُوبا اور اندھیرا چھا گیا تو ایک تُور  
جس میں سے دُھوان اٹھتا تھا دکھائی دیا اور ایک جلتی  
مشعل ان ٹکڑوں کے بیچ میں سے ہوکر گزرنی۔

پیدائش ۱۵ : ۱۷



اُسی روز خُداوند نے ابراہم سے عہد کیا اور فرمایا کہ، ”یہ مُلک دریائی مصر سے لیکر اُس بڑے دریا یعنی دریائی فرات تک۔

پیدائش ۱۵:۱۸





پیدائش ۱۵: ۲۱۔۱۹

” قینیوں اور قنیریوں اور قدموںیوں۔ اور حتیوں اور فرزیوں اور رفائیم۔ اور اموریوں اور کنعاینیوں اور جرجاسیوں اور یبوسیوں سمیت میں نے تیری اولاد کو دیا ہے۔“

## BIBLE: Genesis 15:1-6

**15:1** After these things the LORD's word came to Abram in a vision, saying, "Don't be afraid, Abram. I am your shield, your exceedingly great reward."

2 Abram said, "Lord GOD, what will you give me, since I go childless, and he who will inherit my estate is Eliezer of Damascus?"

3 Abram said, "Behold, you have given no children to me: and, behold, one born in my house is my heir."

4 Behold, the LORD's word came to him, saying, "This man will not be your heir, but he who will come out of your own body will be your heir."

5 The LORD brought him outside, and said, "Look now towards the sky, and count the stars, if you are able to count them." He said to Abram, "So your offspring will be."

6 He believed in the LORD, who credited it to him for righteousness.

بائبل: پیدائش ۱۵:۱ سے ۱۵:۶

۱۵:۱۔ ان باتوں کے بعد ہداوند کا کلام رویا میں ابرام پر نازل ہوا اور اُس نے فرمایا، "آے ابرام تو مت ڈر۔ میں تیری سپر اور تیرا بہت بڑا اجر ہوں۔"

۲۔ ابرام نے کہا، "آے ہداوند خدا تو مجھے کیا دیگا؟ کیونکہ میں تو بے اولاد جاتا ہوں اور میرے گھر کا مختار دمشقی الیعززہ ہے۔"

۳۔ پھر ابرام نے کہا، "دیکھو تو نے مجھے کوئی اولاد نہیں دی اور دیکھو میرا خانہ زاد میرا وارث ہوگا۔"

۴۔ تب ہداوند کا کلام اُس پر نازل ہوا اور اُس نے فرمایا، "یہ تیرا وارث نہ ہوگا بلکہ وہ جو تیرے صلب سے پیدا ہوگا وہی تیرا وارث ہوگا۔"

۵۔ اور وہ اُسکو باہر لے گیا اور کہا کہ، "اب آسمان کی طرف نگاہ کر اور اگر تو ستاروں کو گین سکتا ہے تو گن اور اُس سے کہا کہ تیری اولاد ایسی ہی ہوگی۔"

۶۔ اور وہ ہداوند پر ایمان لایا اور اسے اُس نے اُسکے حق میں راستبازی شمار کیا۔

## BIBLE: Genesis 15:7-13

7 He said to Abram, "I am the LORD who brought you out of Ur of the Chaldees, to give you this land to inherit it."

8 He said, "Lord GOD, how will I know that I will inherit it?"

9 He said to him, "Bring me a heifer three years old, a female goat three years old, a ram three years old, a turtledove, and a young pigeon."

10 He brought him all these, and divided them in the middle, and laid each half opposite the other; but he didn't divide the birds.

11 The birds of prey came down on the carcasses, and Abram drove them away.

12 When the sun was going down, a deep sleep fell on Abram. Now terror and great darkness fell on him.

13 He said to Abram, "Know for sure that your offspring will live as foreigners in a land that is not theirs, and will serve them. They will afflict them four hundred years.

بائبل: پیدائش ۱۵: ۷ سے ۱۵: ۱۳

۷۔ اور اُس نے اُس سے کہا کہ، "میں خداوند بُون جو تھے کسdiوں کے اور نکال لایا کہ تجکھو یہ مُلک میراث میں دُون۔"

۸۔ اور اُس نے کہا، "آے خداوند خُد! میں کیونکر جانوں کہ میں اُسکا وارث ہونگا۔"

۹۔ اُس نے اُس سے کہا کہ، "میرے لئے تین برس کی ایک بھچیا اور تین برس کی ایک بکری اور تین برس کا ایک مینڑا اور ایک ٹمری اور ایک کبوتر کا بچہ لے۔"

۱۰۔ اُس نے ان سبھوں کو لیا اور انکو بیچ سے دو ٹکڑے کیا اور بر ٹکڑے کو اُسکے ساتھ کے دُسرے ٹکڑے کے مقابل رکھا مگر پرندوں کے ٹکڑے نہ کے۔

۱۱۔ تب شکاری پرندے ان ٹکڑوں پر جھپٹتے لگے پر ابرام انکو ہنکاتا رہا۔

۱۲۔ سورج ڈوبتے وقت ابرام پر گہری نبند غالب ہوئی۔ اور دیکھو ایک بڑی بولناک تاریکی اُس پر چھا گئی۔

۱۳۔ اور اُس نے ابرام سے کہا، "یقین جان کہ تیری نسل کے لوگ ایسے مُلک میں جو انکا نہیں پر دیسی ہونگے اور وہاں کے لوگوں کی غلامی کرینگے اور وہ چار سو برس تک انکو دُکھ دینگے۔"

## پیدائش ۱۵: ۱۴ سے ۲۱: ۱۵

### Genesis 15:14-21

14 I will also judge that nation, whom they will serve. Afterward they will come out with great wealth;

15 but you will go to your fathers in peace. You will be buried at a good old age. 16 In the fourth generation they will come here again, for the iniquity of the Amorite is not yet full."

17 It came to pass that, when the sun went down, and it was dark, behold, a smoking furnace and a flaming torch passed between these pieces.

18 In that day the LORD made a covenant with Abram, saying, "I have given this land to your offspring, from the river of Egypt to the great river, the river Euphrates:

19 the land of the Kenites, the Kenizzites, the Kadmonites, 20 the Hittites, the Perizzites, the Rephaim,

21 the Amorites, the Canaanites, the Gergashites, and the Jebusites."

۱۴۔ ”لیکن میں اُس قوم کی عدالت کروں گا جسکی وہ غلامی کرینگے اور بعد میں وہ بڑی دولت لیکر وہاں سے نکل آئینگے۔“

۱۵۔ ”اور تو صحیح سلامت اپنے باب دادا سے جا ملیگا اور نہایت پیری میں دفن ہوگا۔“

۱۶۔ ”اور وہ چوتھی پُشت میں یہاں لوٹ آئینگے کیونکہ اموریوں کے گناہ اب تک پورے نہیں ہوئے۔“

۱۷۔ اور جب سورج ڈُوبَا اور اندر ہیرا چھا گیا تو ایک تنور جس میں سے دُھواں اٹھتا تھا دکھائی دیا اور ایک جلتی مشعل اُن ٹکڑوں کے بیچ میں سے ہوکر گزرا۔

۱۸۔ اُسی روز ڈُداوند نے ابرام سے عہد کیا اور فرمایا کہ، ”یہ مُلک دریا یا مصر سے لیکر اُس بڑے دریا یعنی دریا یا فرات تک۔

۱۹۔ ”قینیوں اور قنبریوں اور قدموںیوں۔ ۲۰ اور حتّیوں اور فرزیوں اور رفائیم۔

۲۱۔ اور اموریوں اور کنعاپیوں اور جرجاسیوں اور بیوسیوں سمیت میں نے تیری اولاد کو دیا ہے۔“

خدا نے کہا، "خوف نہ کھا۔"

”لیکن خُدا، میں تو بے اولاد ہوں۔“



ابرائے خداوند پر ایمان لایا، وہ  
اُسکے حق میں راستبازی شمار کیا۔



خُدا ابراَم کو آگاہ کرتا ہے کہ اُسکے  
خاندان کے لئے مشکل وقت آرہا ہے۔



خُدا عہد کرتا ہے کہ چار سو برس کے  
بعد اُس کے خاندان کو آزاد کرے گا۔

خُدا ابراَم سے عہد کرتا ہے کہ ایک دن  
اُسکا خاندان اس ملک میں لوٹ کر آئیگا۔



پیدائش ۱۶: ۱۶



پیدائش ۱۶: ۱

اور ابراہم کی بیوی سارہ کے کوئی اولاد نہ ہوئی۔

A cartoon illustration showing Sarah, the wife of Abraham, holding a small lamb in her arms. She has a tear falling from her eye and looks distressed. Hagar, the Egyptian maid, stands to her right, wearing a yellow headband and a green dress, looking down at Sarah with a concerned expression.

پیدائش ۱۶:

اُسکی ایک مصری لونڈی تھی جسکا نام ہاجرہ تھا۔  
اور ساری نے ابراہم سے کہا کہ، ” دیکھ خداوند  
نے مجھے تو اولاد سے محروم رکھا ہے۔“



پیدائش ۱۶ :

”سو ٹو میری لونڈی کے پاس جا  
شاید اُس سے میرا گھر آباد ہو۔“

اور ابراہم نے ساری کی بات مانی۔

پیدائش ۱۶:۲



پیدائش ۱۶ :

اور ابراہم کو ملکِ کنعان میں رہتے دس برس  
ہو گئے تھے جب اُسکی بیوی سارہ نے اپنی  
مصری لونڈی اُسے دی کہ اُسکی بیوی بنے۔



اور وہ ہاجرہ کے پاس گیا اور حاملہ ہوئی۔

پیدائش ۱۶:۴

ساری شادی کے  
بندھن میں ہاجرہ کو  
باندھ دیتی ہے ⑥

اور جب اُسے معلوم ہوا کہ وہ حاملہ  
ہو گئی تو اپنی بی بی کو حقیر جانے لگی۔

پیدائش ۱۶:۴



تب ساری نے ابرام سے کہا کہ، ”جو ظُلم مجھ پر ہُوا وہ تیری گردن پر ہے۔ میں نے اپنی لونڈی تیرے آغوش میں دی اور اب جو اُس نے آپ کو حاملہ دیکھا تو میں اُسکی نظرؤں میں حقیر ہو گئی۔“



پیدائش ۱۶:۵

”سو خُداوند میرے اور تیرے درمیانِ انصاف کرے۔“

ابرائیم نے ساری سے کہا کہ، ”تیری لونڈی تیرے ہاتھ  
میں ہے جو تجھے بھلا دکھائی دے سو اُسکے ساتھ کر۔“

پیدائش ۱۶:۶





پیدائش ۱۶:

تب ساری اُس پر سختی کرنے لگی  
اور وہ اُسکے پاس سے بھاگ گئی۔



پیدائیش : ۱۶ : ۷

اور وہ خداوند کے فرشتہ کو بیابان میں پانی کے ایک چشمہ کے پاس ملی۔ یہ وہی چشمہ ہے جو سور کی راہ پر ہے۔

اور اُس نے کہا، ”آمے ساری کی لونڈی  
ہاجرہ ٹو کہاں سے آئی اور کدھر جاتی ہے؟“

پیدائش : ۱۶




A cartoon-style illustration of Jesus and a woman at a well. Jesus, on the left, has long blonde hair and is wearing a white robe with a red sash. He is smiling and holding a golden chalice. The woman, on the right, has dark hair and is wearing a green dress. She is crying and holding a silver chalice. The background shows a stone wall and some trees.

اُس نے کہا کہ، ”میں اپنی بی بی  
ساری کے پاس سے بھاگ آئی ہوں۔“

پیدائش : ۱۶

خداوند کے فرشتہ نے اُس سے کہا کہ، ”تو اپنی بی بی کے پاس لوٹ جا اور اپنے کو اُسکے قبضہ میں کر دے۔“

پیدائش ۱۶:۹





اور خداوند کے فرشتہ نے اُس سے کہا کہ میں  
تیری اولاد کو بہت بڑھاؤں گا یہاں تک کہ کثرت  
کے سبب سے اُسکا شمار نہ ہو سکے گا۔

پیدائش ۱۰:۱۶



اور خداوند کے فرشتہ نے اُس سے کہا  
کہ، ”ٹو حاملہ ہے اور تیرے بیٹا ہوگا۔“

پیدائش: ۱۶: ۱۱

پیدایش ۱۶:۱۱

” اُس کا نام اسماعیل رکھنا اسلائے  
کہ خداوند نے تیرا دُکھ سُن لیا۔“

” وہ گورخ کی طرح آزاد مرد ہوگا۔ اُسکا ہاتھ سب کے خلاف اور سب کے ہاتھ اُسکے خلاف ہونگے اور وہ اپنے سب بھائیوں کے سامنے بسا رہیگا۔“

پیدائش ۱۶:۱۲



اور ہاجرہ نے خداوند کا جس نے اُس سے باتیں کیں، ” اتا ایں روئی نام رکھا یعنی آے خدا ٹو بصیر ہے کیونکہ اُس نے کہا کیا میں نے یہاں بھی اپنے دیکھنے والے کو جاتے ہوئے دیکھا؟“

پیدائش: ۱۶:۱۳





اسی سبب سے اُس گوئیں کا نام بیرلھی روئی پڑ گیا۔ وہ قادس اور بردا کے درمیان ہے۔

پیدائش ۱۶:۱۴

اور ابراہم سے ہاجرہ کے ایک بیٹا ہوا اور ابراہم نے اپنے اُس بیٹے کا نام جو ہاجرہ سے پیدا ہوا اسماعیل رکھا۔

پیدائش ۱۶: ۱۵



اور جب ابراہم سے ہاجرہ کے اسماعیل  
پیدا ہوا تب ابراہم چھیاسی برس کا تھا۔

پیدائش ۱۶:۱۶



## BIBLE: Genesis 16:1-16

**16:1** Now Sarai, Abram's wife, bore him no children. She had a servant, an Egyptian, whose name was Hagar.

2 Sarai said to Abram, "See now, the LORD has restrained me from bearing. Please go in to my servant. It may be that I will obtain children by her." Abram listened to the voice of Sarai.

3 Sarai, Abram's wife, took Hagar the Egyptian, her servant, after Abram had lived ten years in the land of Canaan, and gave her to Abram her husband to be his wife.

4 He went in to Hagar, and she conceived. When she saw that she had conceived, her mistress was despised in her eyes.

5 Sarai said to Abram, "This wrong is your fault. I gave my servant into your bosom, and when she saw that she had conceived, she despised me. May The LORD judge between me and you."

بائب: پیدائش ۱۶:۱ سے ۱۶:۵

۱۶:۱ اور ابرام کی بیوی ساری کے کوئی اولاد نہ ہوئی۔ اسکی ایک مصری لوندی تھی جسکا نام ہاجرہ تھا۔

۲۔ اور ساری نے ابرام سے کہا کہ، "دیکھ خداوند نے مجھے تو اولاد سے محروم رکھا ہے۔ سو ٹو میری لوندی کے پاس جا شاید اس سے میرا گھر آباد ہو۔" اور ابرام نے ساری کی بات مانی۔

۳۔ اور ابرام کو ملک کنعان میں رہتے دس برس ہو گئے تھے جب اسکی بیوی ساری نے اپنی مصری لوندی اسے دی کہ اسکی بیوی بنے۔

۴۔ اور وہ ہاجرہ کے پاس گیا اور حاملہ ہوئی۔ اور جب اسے معلوم ہوا کہ وہ حاملہ ہو گئی تو اپنی بی بی کو حقیر جانے لگی۔

۵۔ تب ساری نے ابرام سے کہا کہ، "جو ظلم مجھ پر ہوا وہ تیری گردن پر ہے۔ میں نے اپنی لوندی تیرے آغوش میں دی اور اب جو اس نے آپ کو حاملہ دیکھا تو میں اسکی نظرؤں میں حقیر ہو گئی۔ سو خداوند میرے اور تیرے درمیان انصاف کرے۔"

## BIBLE: Genesis 16:6-11

6 But Abram said to Sarai, "Behold, your maid is in your hand. Do to her whatever is good in your eyes." Sarai dealt harshly with her, and she fled from her face.

7 The LORD's angel found her by a fountain of water in the wilderness, by the fountain on the way to Shur. 8 He said, "Hagar, Sarai's servant, where did you come from? Where are you going?"

She said, "I am fleeing from the face of my mistress Sarai."

9 The LORD's angel said to her, "Return to your mistress, and submit yourself under her hands."

10 The LORD's angel said to her, "I will greatly multiply your offspring, that they will not be counted for multitude."

11 The LORD's angel said to her, "Behold, you are with child, and will bear a son. You shall call his name Ishmael, because the LORD has heard your affliction.

بانبل: پیدائش ۱۶:۶ سے ۱۶:۱۱

۶۔ ابرام نے ساری سے کہا کہ، "تیری لونڈی کے، تیرے باتھ میں بے جو تجھے بھلا دکھائی دے سو اسکے ساتھ کر۔" تب ساری اُس پر سختی کرنے لگی اور وہ اسکے پاس سے بھاگ گئی۔

۷۔ اور وہ ہداوند کے فرشته کو بیابان میں پانی کے ایک چشمہ کے پاس ملی۔ یہ وہی چشمہ ہے جو شور کی راہ پر ہے۔ ۸۔ اور اُس نے کہا، "اے ساری کی لونڈی پاجرہ تو کہاں سے آئی اور کدھر جاتی ہے؟" اُس نے کہا کہ، "میں اپنی بی بی ساری کے پاس سے بھاگ آئی ہوں۔"

۹۔ ہداوند کے فرشته نے اُس سے کہا کہ، "تو اپنی بی بی کے پاس لوٹ جا اور اپنے کو اسکے قبضہ میں کر دے۔"

۱۰۔ اور ہداوند کے فرشته نے اُس سے کہا کہ میں تیری اولاد کو بہت بڑھاؤں گا بیان تک کہ کثرت کے سبب سے اُسکا شمار نہ ہو سکے گا۔

۱۱۔ اور ہداوند کے فرشته نے اُس سے کہا کہ، "ثُو حاملہ ہے اور تیرے بیٹا ہو گا۔ اس کا نام اسماعیل رکھنا اسلئے کہ ہداوند نے تیرا دُکھ سُن لیا۔"

پیدائش: ۱۶: ۱۲ سے ۱۶: ۱۶

۱۲۔ ”وہ گورخر کی طرح آزاد مرد ہوگا۔ اُسکا باتھ سب کے خلاف اور سب کے باتھ اُسکے خلاف ہونگے اور وہ اپنے سب بھائیوں کے سامنے بسا رہیگا۔“

۱۳۔ اور ہاجرہ نے ہُداوند کا جس نے اُس سے باتیں کیں، ”انا ایل روئی نام رکھا یعنی آئے ہذا ٹو بصیر ہے کیونکہ اُس نے کہا کیا میں نے یہاں بھی اپنے دیکھنے والے کو جاتے ہوئے دیکھا؟“

۱۴۔ اسی سبب سے اُس گوئیں کا نام بیرلحی روئی پڑ گیا۔ وہ قادیس اور برَد کے درمیان ہے۔

۱۵۔ اور ابرام سے ہاجرہ کے ایک بیٹا ہوا اور ابرام نے اپنے اُس بیٹے کا نام جو ہاجرہ سے پیدا ہوا اسماعیل رکھا۔

۱۶۔ اور جب ابرام سے ہاجرہ کے اسماعیل پیدا ہوا تب ابرام چھیاسی برس کا تھا۔

**Genesis 16:12-16** 12 He will be like a wild donkey amongst men. His hand will be against every man, and every man's hand against him. He will live opposed to all of his brothers."

13 She called the name of the LORD who spoke to her, "You are a God who sees," for she said, "Have I even stayed alive after seeing him?"

14 Therefore the well was called Beer Lahai Roi. Behold, it is between Kadesh and Bered.

15 Hagar bore a son for Abram. Abram called the name of his son, whom Hagar bore, Ishmael.

16 Abram was eighty-six years old when Hagar bore Ishmael to Abram.



ساري چاہتی تھی کہ ابرام  
لوندی اولاد پیدا کرے۔



ساری ابراہم سے کہتی ہے کہ اُسکی لوندی  
سے شادی کرے تاکہ اولاد پیدا ہو سکے۔

ہاجرہ حاملہ ہوتی ہے، لیکن اب وہ مزید ساری  
کی لونڈی بن کر کام کرنا نہیں چاہتی ہے۔



ساری اور ہاجر کے درمیان لڑائی ہوئی،  
اور ہاجر گھر سے بھاگ جاتی ہے۔



ہاجرہ گھر سے بھاگتی ہے اور  
گنوئیں کے پاس رک جاتی ہے۔



خداوند کا فرشتہ پوچھتا ہے  
کہ، ” ہاجرہ مسئلہ کیا ہے؟“



ساری مجھ سے ناراض ہے اور  
مجھ معلوم نہیں کہ کیا کروں!



خُداوند کا فرشتہ ہاجرہ سے  
کہتا ہے کہ واپس گھر لوٹ جا۔

”خُدا کے پاس تمہارے بچے اور  
تمہارے لئے بڑا منصوبہ ہے!“



ہاجرہ گھر لوٹ آئی اور اُس کے ہاتھ لڑکا  
پیدا ہوتا ہے جس کا نام اسماعیل رکھا گیا۔

ابراہم چھیاسی برس کا ہے۔



خُدا فرماتا ہے کہ ابراہم میرے  
پاس تیرے لئے بڑا منصوبہ ہے!

جب ابراہم ننانو مے برس کا ہؤا تب خداوند ابراہم کو  
نظر آیا اور اُس سے کہا کہ، ”میں خُدای قادر  
ہوں۔ ٹو میرے حضور میں چل اور کامل ہو۔“

پیدائش ۱۷: ۱

پیدائش ۱۷: ۱


” اور میں اپنے اور تیرے درمیان عہد  
باندھوں گا اور تجھے بہت زیادہ بڑھاؤں گا۔ ”

پیدیاش ۱۷ : ۲



تب ابراہم سرنگوں ہو گیا اور خُدا نے اُس سے ہمکلام  
ہو کر فرمایا۔ ”کہ دیکھ میرا عہد تیرے ساتھ ہے۔“

۴۰۳ : ۱۷ پیدائش





پیدائش ۱۷: ۵

اور ٹو بہت قوموں کا باپ ہوگا۔ اور تیرا نام پھر  
ابراہم نہیں کہلائیگا بلکہ تیرا نام ابرہام ہوگا کیونکہ  
میں نے تجھے بہت قوموں کا باپ ٹھہرا دیا ہے۔

”اور میں تجھے بہت برومند کروں گا اور قومیں تیری نسل سے ہونگی اور بادشاہ تیری اولاد میں سے برپا ہونگے۔“

پیدائش ۱۷:۶



” اور میں اپنے اور تیرے درمیان اور تیرے بعد تیری نسل---

پیدایش ۱۷:

کے درمیان انکی سب پُشتوں کے لئے اپنا  
عہد جو ابدی عہد ہوگا باندھونگا تاکہ میں  
تیرا اور تیرے بعد تیری نسل کا خُدا رہوں۔“




پیدائش ۱۷ :

” اور میں تجھ کو اور تیرے بعد تیری نسل کو کنعان کا تمام ملک جس میں ٹو پر دیسی ہے آیسا ڈونگا کہ وہ دائمی ملکیت ہو جائے۔ اور میں انکا خُدا ہُونگا۔ ”

پھر خُدا نے ابراہَم سے کہا کہ، ”تو میرے عہد کو ماننا  
اور تیرے بعد تیری نسل پُشت در پُشت اُسے مانے۔“

پیدائش ۱۷:۹



” اور میرا عہد جو میرے اور تیرے درمیان اور تیرے بعد  
تیری نسل کے درمیان ہے اور جسے تم مانو گے سو یہ  
ہے کہ ٹم میں سے ہر ایک فرزندِ نرینہ کا ختنہ کیا جائے۔“

پیدائش ۱۷: ۱۰



” اور تم اپنے بدن کی کھلڑی کا ختنہ کیا کرنا۔ اور یہ اُس عہد کا نشان ہوگا جو میرے اور تمہارے درمیان ہے۔

پیدائش ۱۷: ۱۲-۱۱



تمہارے درمیان پُشت در پُشت ہر لڑکے کا ختنہ جب وہ آٹھ روز کا ہو کیا جائے۔ خواہ وہ گھر میں پیدا ہو خواہ اُسے کسی پردیسی سے خریدا ہو جو تیری نسل سے نہیں۔“



پیدائش ۱۷: ۱۳

”لازم ہے کہ تیرے خانہ زاد اور تیرے زر خرید کا ختنہ  
کیا جائے اور میرا عہد تمہارے جسم میں ابدی عہد ہوگا۔“

” اور وہ فرزندِ نرینہ جسکا ختنہ نہ ہوا ہو اپنے لوگوں  
میں کاٹ ڈالا جائے کیونکہ اُس نے میرا عہد توڑا۔ ”

پیدائش ۱۷:۱۴



اور خُدا نے ابراہام سے کہا کہ، ”ساریٰ جو تیری بیوی  
ہے سو اُسکو ساری نہ پُکارنا۔ اُسکا نام سارہ ہوگا۔“

پیدائش: ۱۷:۱۵





پیدائش ۱۷: ۱۶

” اور میں اُسے برکت دونگا اور اُس سے بھی تجھے ایک بیٹا بخشوونگا۔ یقیناً میں اُسے برکت دونگا کہ قومیں اُسکی نسل سے ہونگی اور عالم کے بادشاہ اُس سے پیدا ہونگے۔“



خُداوند ابرام پر ظاہر ہوا۔

خدا کہتا ہے، ”تمہارا نام ابرہام ہو گا۔“



وہ مجھے بنساتا ہے!  
پیدائش ۱۷: ۱۷



پیدائش ۱۷: ۱۷

تب ابرہام سرنگوں ہوا اور ہنس کر دل میں کہنے لگا  
کہ، ”کیا سو برس کے بُڈھے سے کوئی بچہ ہوگا۔



پیدائش ۱۷:۱۸

اور کیا سارہ کے جو نوے برس کی ہے اولاد  
ہوگی؟“ اور ابرہام نے خدا سے کہا کہ، ”کاش  
اسمعیل ہی تیرے حضور جیتا رہے۔“

تب خُدا نے فرمایا کہ، ”بیشک تیری بیوی سارہ کے  
تجھ سے بیٹا ہوگا۔ تو اُسکا نام اضحاق رکھنا۔

پیدائش ۱۷:۱۹





پیدائش ۱۷:۱۹

” اور میں اُس سے اور پھر اُسکی اولاد  
سے اپنا عہد جو ابدی عہد ہے باندھونگا۔ ”

” اور اسماعیل کے حق میں میں نے تیری دُعا سُنی۔ دیکھ میں اُسے برکت دُونگا اور اُسے برومند کروںگا اور اُسے بہت بڑھاؤںگا۔“

پیدائش ۱۷ : ۲۰



پیدایش ۱۷: ۲۰

” اور اُس سے بارہ سردار پیدا ہونگے  
اور میں اُسے بڑی قوم بناؤں گا۔“

”لیکن میں اپنا عہد اضحاق سے باندھونگا جو  
اگلے سال اسی وقتِ معین پر سارہ سے پیدا ہوگا۔“

پیدائش ۱۷:۲۱



پیدائش ۱۷: ۲۲

اور جب خُدا ابراہم سے باتیں کر چُکا  
تو اُسکے پاس سے اوپر چلا گیا۔

تب ابراہم نے اپنے بیٹے اسماعیل کو اور سب  
خانہ زادوں اور اپنے سب زر خریدوں کو،

پیدائش ۱۷: ۲۳





یعنی اپنے گھر کے سب مردوں کو لیا اور اُسی روز خُدا کے حُکم کے مُطابق اُنکا ختنہ کیا۔

۱۷: پیدائش ۲۲

ابرہام ننانوے برس کا تھا جب اُسکا ختنہ ہوا۔

پیدائش ۱۷: ۲۴



اور جب اُسکے بیٹے اسماعیل کا ختنہ ہوا تو وہ تیرہ برس کا تھا۔

پیدائش: ۱۷: ۲۵





پیدائش : ۱۷ : ۲۶

ابرہام اور اُسکے بیٹے اسماعیل  
کا ختنہ ایک ہی دن ہوا۔

اور اُسکے گھر کے سب مردوں کا ختنہ خانہ زادوں اور انکا  
بھی جو پر دیسون سے خریدے گئے تھے اُسکے ساتھ ہوا۔

پیدائش ۱۷: ۲۷



## BIBLE: Genesis 17:1-7

**17:1** When Abram was ninety-nine years old, the LORD appeared to Abram and said to him, "I am God Almighty. Walk before me and be blameless."

**2** "I will make my covenant between me and you, and will multiply you exceedingly."

**3** Abram fell on his face. God talked with him, saying, **4** "As for me, behold, my covenant is with you. You will be the father of a multitude of nations.

**5** Your name will no more be called Abram, but your name will be Abraham; for I have made you the father of a multitude of nations.

**6** I will make you exceedingly fruitful, and I will make nations of you. Kings will come out of you.

**7** I will establish my covenant between me and you and your offspring after you throughout their generations for an everlasting covenant, to be a God to you and to your offspring after you.

## بائبل: پیدائش ۱۷:۱ سے ۱۷:۷

۱۷:۱ جب ابرام ننانوے برس کا ہوا تب خداوند ابرام کو نظر آیا اور اس سے کہا کہ، "میں خدائی قادر ہوں۔ تو میرے حضور میں چل اور کامل ہو۔"

۲۔ "اور میں اپنے اور تیرے درمیان عہد باندھوں گا اور تجھے بہت زیادہ بڑھاؤں گا۔"

۳۔ تب ابرام سرنگوں ہو گیا اور خدا نے اس سے ہمکلام ہو کر فرمایا۔ ۴۔ "کہ دیکھ میرا عہد تیرے ساتھے ہے۔ اور تو بہت قوموں کا باپ ہو گا۔

۵۔ اور تیرا نام پھر ابرام نہیں کہلانیگا بلکہ تیرا نام ابرہام ہو گا کیونکہ میں نے تجھے بہت قوموں کا باپ ٹھہرا دیا ہے۔

۶۔ "اور میں تجھے بہت برومذ کروں گا اور قومیں تیری نسل سے ہونگی اور بادشاہ تیری اولاد میں سے بربا ہونگے۔"

۷۔ "اور میں اپنے اور تیرے درمیان اور تیرے بعد تیری نسل کے درمیان انکی سب پیشتوں کے لئے اپنا عہد جو ابدی عہد ہو گا باندھوں گا تاکہ میں تیرا اور تیرے بعد تیری نسل کا خدا رہوں۔"

## BIBLE: Genesis 17:8-13

8 I will give to you, and to your offspring after you, the land where you are travelling, all the land of Canaan, for an everlasting possession. I will be their God."

9 God said to Abraham, "As for you, you will keep my covenant, you and your offspring after you throughout their generations.

10 This is my covenant, which you shall keep, between me and you and your offspring after you. Every male amongst you shall be circumcised. 11 You shall be circumcised in the flesh of your foreskin. It will be a token of the covenant between me and you.

12 He who is eight days old will be circumcised amongst you, every male throughout your generations, he who is born in the house, or bought with money from any foreigner who is not of your offspring.

13 He who is born in your house, and he who is bought with your money, must be circumcised. My covenant will be in your flesh for an everlasting covenant.

بائبل: پیدائش ۱۷: ۸ سے ۱۷: ۱۳

۸۔ اور میں تجھے کو اور تیرے بعد تیری نسل کو کنعان کا تمام ملک جس میں تو پر迪سی بے آپسا دُونگا کہ وہ دائمی ملکیت ہو جائے۔ اور میں اُنکا خُدا ہُونگا۔“

۹۔ پھر خُدا نے ابراہام سے کہا کہ، ”تو میرے عہد کو ماننا اور تیرے بعد تیری نسل پُشت در پُشت اُسے مانے۔“

۱۰۔ اور میرا عہد جو میرے اور تیرے درمیان اور تیرے بعد تیری نسل کے درمیان ہے اور جسے تم مانو گے سو یہ ہے کہ تم میں سے بر ایک فرزند نرینہ کا ختنہ کیا جائے۔ ۱۱۔ اور تم اپنے بدن کی کھلڑی کا ختنہ کیا کرنا۔ اور یہ اُس عہد کا نشان ہوگا جو میرے اور تمہارے درمیان ہے۔

۱۲۔ تمہارے درمیان پُشت در پُشت بر لڑکے کا ختنہ جب وہ آٹھ روز کا ہو کیا جائے۔ خواہ وہ گھر میں پیدا ہو خواہ اُسے کسی پر迪سی سے خریدا ہو جو تیری نسل سے نہیں۔

۱۳۔ لازم ہے کہ تیرے خانہ زاد اور تیرے زر خرید کا ختنہ کیا جائے اور میرا عہد تمہارے جسم میں ابدی عہد ہوگا۔

پیدائش ۱۷: ۱۴ سے ۱۷: ۱۹

## Genesis 17:14-19

14 The uncircumcised male who is not circumcised in the flesh of his foreskin, that soul shall be cut off from his people. He has broken my covenant."

15 God said to Abraham, "As for Sarai your wife, you shall not call her name Sarai, but her name will be Sarah."

16 "I will bless her, and moreover I will give you a son by her. Yes, I will bless her, and she will be a mother of nations. Kings of peoples will come from her."

17 Then Abraham fell on his face, and laughed, and said in his heart, "Will a child be born to him who is one hundred years old? Will Sarah, who is ninety years old, give birth?"

18 Abraham said to God, "Oh that Ishmael might live before you!"

19 God said, "No, but Sarah, your wife, will bear you a son. You shall call his name Isaac. I will establish my covenant with him for an everlasting covenant for his offspring after him.

۱۴۔ " اور وہ فرزند نرینہ جسکا ختنہ نہ ہوا ہو اپنے لوگوں میں کاٹ ڈالا جائے کیونکہ اُس نے میرا عہد توڑا۔"

۱۵۔ اور خدا نے ابراہام سے کہا کہ، "ساری جو تیری بیوی ہے سو اُسکو ساری نہ پُکارنا۔ اسکا نام سارہ ہوگا۔"

۱۶۔ " اور میں اُسے برکت دُونگا اور اُس سے بھی تجھے ایک بیٹا بخشنگا۔ یقیناً میں اُسے برکت دُونگا کہ قومیں اُسکی نسل سے ہونگی اور عالم کے بادشاہ اُس سے پیدا ہونگے۔"

۱۷۔ تب ابراہام سرنگوں ہوا اور ہنس کر دل میں کہنے لگا کہ، " کیا سو برس کے بُٹھے سے کوئی بچہ ہوگا اور کیا سارہ کے جو نوے برس کی ہے اولاد ہوگی؟"

۱۸۔ اور ابراہام نے خدا سے کہا کہ، " کاش اسماعیل ہی تیرے حضور جیتا رہے۔"

۱۹۔ تب خدا نے فرمایا کہ، " بیشک تیری بیوی سارہ کے تجھ سے بیٹا ہوگا۔ تو اسکا نام اضحاق رکھنا۔ اور میں اُس سے اور پھر اُسکی اولاد سے اپنا عہد جو ابدی عہد ہے باندھوں گا۔"

## Genesis 17:20-25

20 As for Ishmael, I have heard you. Behold, I have blessed him, and will make him fruitful, and will multiply him exceedingly. He will become the father of twelve princes, and I will make him a great nation.

21 But I will establish my covenant with Isaac, whom Sarah will bear to you at this set time next year."

22 When he finished talking with him, God went up from Abraham.

23 Abraham took Ishmael his son, all who were born in his house, and all who were bought with his money: every male amongst the men of Abraham's house, and circumcised the flesh of their foreskin in the same day, as God had said to him.

24 Abraham was ninety-nine years old when he was circumcised in the flesh of his foreskin.

25 Ishmael, his son, was thirteen years old when he was circumcised in the flesh of his foreskin.

۲۰۔ اور اسمعیل کے حق میں میں نے تیری دُعا سنئی۔ دیکھ میں اسے برکت ڈونگا اور اسے برومذ کرونگا اور اسے بہت بڑھاؤنگا۔ اور اس سے بارہ سردار پیدا ہونگے اور میں اسے بڑی قوم بناؤں گا۔

۲۱۔ لیکن میں اپنا عہد اضحاق سے باندھوں گا جو اگلے سال اسی وقت مُعین پر سارہ سے پیدا ہوگا۔

۲۲۔ اور جب خدا ابراہم سے باتیں کر چکا تو اُسکے پاس سے اوپر چلا کیا۔

۲۳۔ تب ابراہم نے اپنے بیٹے اسمعیل کو اور سب خانہ زادوں اور اپنے سب زر خریدوں کو یعنی اپنے گھر کے سب مردوں کو لیا اور اسی روز خدا کے حکم کے مطابق انکا ختنہ کیا۔

۲۴۔ ابراہم ننانوے برس کا تھا جب اسکا ختنہ ہوا۔

۲۵۔ اور جب اُسکے بیٹے اسمعیل کا ختنہ ہوا تو وہ تیرہ برس کا تھا۔

**Genesis 17:26-27** 26 In the same day both Abraham and Ishmael, his son, were circumcised.

27 All the men of his house, those born in the house, and those bought with money from a foreigner, were circumcised with him.

**پیدائش ۱۷:۲۶ سے ۲۷:**

۲۶۔ ابراہام اور اُسکے بیٹے اسماعیل کا ختنہ ایک ہی دن ہوا۔

۲۷۔ اور اُسکے گھر کے سب مردوں کا ختنہ خانہ زادوں اور انکا بھی جو پرنسپسون سے خریدے گئے تھے اُسکے ساتھ ہوا۔





”میں سارہ سے تجھے ایک بیٹا بخشوں گا۔“



ابرہام اور سارہ

”میں اسماعیل کو بھی برکت دُونگا۔“





سارہ کو اُسکی بزرگی  
میں ایک بیٹا ہوگا۔



ابرہام خُدا کے وعدوں پر یقین رکھتا ہے۔

ہر لڑکے کے لئے ختنہ۔۔۔



اور ہر آدمی کا ختنہ لازمی ہے۔ بیشک!



ابرہام ننانوے برس کا تھا جب اُسکا ختنہ ہوا۔



جب إسماعيل کا ختنہ ہؤا تو وہ تیرہ برس کا تھا۔





ختنه انکو خُدا کے ساتھ باندھے ہوئے عہد کو یاد دلاتا تھا۔

“اڭل؟”

